



آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ : انگلینڈ نے پاکستان کو 42 رنز سے شکست دے دی

کینبرا، 28 فروری 2020ء:

آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ 2020 کے گروپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 42 رنز سے شکست دے دی۔ کینبرا میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم 19.4 اوورز میں 116 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی باؤلرز نے نیپی تلی باؤلنگ کرتے ہوئے میچ کے آغاز میں حریف ٹیم کو دباؤ کا شکار کیا تاہم 81 کے مجموعی اسکور پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیتھر ناٹ نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے نصف سنچری اسکور کر دی۔ انہوں نے 47 گیندوں پر 8 چوکوں اور 1 چھکے کی بدولت 62 رنز کی اننگز کھیلی۔ دیگر نمایاں بیٹرز میں نتالی سیورز نے 36 اور فرین ولسن نے 22 رنز بنائے۔

ایمن انور نے 3 اور ندا ڈار نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم اننگز کا متاثر کن آغاز کرنے میں ناکام رہی اور محض 62 رنز پر ابتدائی 6 بیٹرز آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئیں۔ ساتویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے میدان میں اترنے والی آراؤنڈر عالیہ ریاض نے 33 گیندوں پر 41 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی مگر وہ پاکستان کو فتح دلانے میں ناکام رہیں۔ عالیہ ریاض کی اننگز میں 5 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ عالیہ ریاض سمیت قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی محض 3 بیٹرز ڈبل فگرز میں داخل ہو سکیں۔ اوپنرز جویریہ خان 16 اور منیبہ علی نے 10 رنز بنائے۔

انگلینڈ کی سارہ گلین اور آنیا شرب سول نے 3، 3 وکٹیں حاصل کیں۔

میچ میں شاندار نصف سنچری اسکور کرنے پر انگلینڈ کی کپتان ہیتھر نائٹ کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

گروپ بی میں شامل پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم اپنا تیسرا میچ یکم مارچ کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔

اسکواڈ:

بسمہ معروف (کپتان)، ایمن انور، عالیہ ریاض، انعم امین، عائشہ نسیم، ڈیانا بیگ، فاطمہ ثناء، ارم جاوید، جویریہ خان، منیبہ علی، ندا ڈار، عمیمہ سپیل، سعدیہ اقبال، سدرہ نواز (وکٹ کیپر) اور سیدہ عروب شاہ۔

آفیشلز:

سید اقبال امام (ہیڈ کوچ)، سلیم جعفر (باؤلنگ کوچ)، عامر اقبال (فیلڈنگ کوچ)، جمال حسین (اسٹریٹھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ)، ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو)، عائشہ جلیل (منیجر) اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔

شیڈول:

یکم مارچ بروز اتوار: پاکستان ویمنز بمقابلہ جنوبی افریقہ ویمنز بمقام سڈنی
3 مارچ بروز منگل: پاکستان ویمنز بمقابلہ تھائی لینڈ ویمنز بمقام سڈنی

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk